

English	Urdu
Put it wherever you like.	جہاں اچھا لگے رکھ دو۔
Familiarity breeds contempt.	قدر کھودیتا ہے روز کا آنا جانا۔
Don't shirk work.	کام سے جی مت چراؤ۔
Idleness is the root cause of all ills.	سستی سبھی بیماریوں کی جڑ ہے۔
Time once lost can't be regained.	گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔
It appears he is off his wits.	لگتا ہے اس کے ہوش ٹھکانے نہیں۔
Wake me up at six o'clock.	مجھے 6 بجے اٹھا دینا۔
He keeps on teasing me.	وہ مجھے تنگ کرتا رہتا ہے۔
You keep on talking all the time.	تم ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہو۔
I keep on missing you all the time.	میں ہر وقت تمہیں مس کرتا رہتا ہوں۔
He was once my friend.	وہ کبھی میرا دوست تھا۔
He comes to me now and then.	وہ میرے یہاں کبھی کبھی آیا کرتا ہے۔
Don't find faults with others!	دوسروں میں عیب مت نکالو !
There is nothing to fear.	ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔
You are unnecessarily worried.	تم خواہ مخواہ پریشان ہو۔
What difference does that make?	اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
Do you have cash in the hand?	آپ کے پاس نقدی ہے؟
Many a man suffered at his hand.	اس کے ہاتھوں کئی لوگوں نے دکھ اٹھایا۔
Don't do this to me!	میرے ساتھ ایسا مت کرو!
I don't think if he knows it.	مجھے نہیں لگتا کہ وہ جانتا ہے۔
Make my bed!	میرا بستر لگاؤ!
Have faith in God.	خدا پر بھروسہ رکھو۔
The milk has turned sour.	دودھ پھٹ گیا ہے۔
Don't sit idle!	بیکار مت بیٹھو!
They exchanged hot words.	ان میں تو تو میں میں ہو پڑی۔
Justice demanded it.	انصاف کا یہی تقاضا تھا۔
Keep it to yourself!	اپنے تک ہی رکھنا!

English	Urdu
I'd move heaven and earth to satisfy you .	میں آپ کو مطمئن کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔
Don't put a hex on me.	مجھ پر بُری نظرمت ڈالو!
I'll surely keep this in mind.	میں ضرور اس بات کا خیال رکھوگا۔
Silence is half consent.	! خاموشی نیم رضامندی ہے۔
Society molds men.	خر بوزے کو دیکھ کر خر بوزہ رنگ بدلتا ہے۔
Prosperity gains friends but adversity tries them.	خوشحالی دوست بناتی ہے مگر بد حالی ان کو پرکھتی ہے۔
I know nothing in this connection.	میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔
Get him out of my sight!	اسے میرے نظروں سے دور لے جاؤ!
It's pointless to have an argument with you.	تم سے بحث کرنا فضول ہے۔
How dare you say that!	ایسا کہنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی!
Don't beat above the bush, come to the point.	ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، اصل مدعے پہ آؤ
What brings you here?	کیسے آنا ہوا؟
I don't have any complaint with you.	مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔
He came in the nick of time.	وہ عین موقع پر آیا۔
He is on leave these days.	وہ آج کل چھٹی پر ہے۔
Don't you dare talk to me.	مجھ سے بات کرنے کی ہمت بھی مت کرنا۔
This matter should seriously be taken under consideration.	اس معاملے پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنا چاہیے۔
I'm really not interested to know who are you.	مجھے واقعی جاننے کا کوئی شوق نہیں کہ تم کون ہو۔
It's not like that.	ایسی بات نہیں ہے۔
You don't seem to agree with me.	لگتا نہیں آپ میرے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں۔
I don't think if he knows.	مجھے نہیں لگتا کہ اسے پتا ہے۔
Have you anything Else to say?	کیا تمہیں کچھ اور کہنا ہے؟
Whom does she want to meet?	وہ کس سے ملنا چاہتی ہے؟